

104166 - کیا بیوی کی ضروریات اور نان و نفقہ پورا کرنا اس کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کہلاتا ہے ؟

سوال

میں نے خالہ کی بیٹی سے شادی کر رکھی ہے، کیا میرا اپنی بیوی پر خرچ کرنا اور نان و نفقہ کی ضروریات پوری کرنا صدقہ اور صلہ رحمی اور میرا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ حسن سلوک کہلائیگا ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

خاوند کا اپنی بیوی کے اخراجات اور ضروریات پوری کرنا کچھ تو واجب ہیں، اور کچھ صدقہ اور نیکی و احسان ہیں اگر بیوی اس کے قریبی مثلاً خالہ کی بیٹی لگتی ہو تو پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا بلاشک و شبہ اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہوگا، اور اسی طرح اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک بھی کہلائیگا.

خاوند کے ذمہ بیوی کے واجب اخراجات میں بیوی کا نان و نفقہ اور رہائش و لباس کا انتظام شامل ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

ان عورتوں کو جہاں تم رہو انہیں وہیں رکھو، اپنی استطاعت کے مطابق، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نقصان و ضرر مت دو الطلاق (6).

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے:

اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ (بچے کی ماں) ان کا نان و نفقہ اور رہائش اچھے طریقہ کے ساتھ ہے البقرة (233).

حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجة الوداع کے موقع پر فرمایا:

" اور ان عورتوں کا تمہارے ذمہ نان و نفقہ اور لباس اچھے طریقہ سے ہے "

صحیح مسلم حدیث نمبر (1218).

اور پھر مرد کو اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرنے پر اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ امام بخاری اور مسلم

نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا:

"تم جو بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر دیا جائیگا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے مونہہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی"

صحیح بخاری حدیث نمبر (1295) صحیح مسلم حدیث نمبر (1628) .

امام نوری رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا بھی اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اس میں اللہ کی رضامندی کے حصول کی نیت رکھی گئی ہو" انتہی

امام بخاری اور مسلم نے ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں پر اجر و ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ کے اجر و ثواب کا باعث ہوگا"

صحیح بخاری حدیث نمبر (55) صحیح مسلم حدیث نمبر (1002) .

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"سب سے افضل اور زیادہ اجر و ثواب والا وہ دینار ہے آدمی جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اپنی سواری اور جانور پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے"

ابو قلابہ کہتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیوی بچوں سے ابتداء کی ہے۔

پھر ابو قلابہ کہنے لگے: چھوٹے بچوں پر خرچ کرنے والے آدمی سے اور زیادہ افضل کون ہوگا جنہیں اللہ نے معفو کیا ہے یا پھر اللہ ان کے ساتھ انہیں فائدہ دے گا اور انہیں غنی کر دیگا۔

صحیح مسلم حدیث نمبر (994) .

اس لیے جو آدمی بھی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے، لیکن اس میں

شرط یہ ہے کہ وہ بیوی بچوں پر خرچ کر تے وقت اجر و ثواب اور اللہ کا قرب و رضامندی حاصل ہونے کی نیت رکھتا ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری اور فرض ادا کر رہا ہے، اور اس سے بیوی بچے خوش ہونگے، یا پھر اسے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی و احسان اور حسن سلوک کرنا ہے۔

واللہ اعلم .